



سوال

(148) عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح پڑھنا

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

آنحضرت ﷺ سے عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح پڑھنے کا ثبوت کیا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں حضرت عائشہ سے نخرج لیلۃ من جوف اللیل (ص ۲۲۰ ج ۳) اور الجواد، ترمذی اور ابن ماجہ میں **فَقَابْنَا حَتَّى ذَهَبَ ثَمَثُ اللَّيْلِ**۔ (مرعاة: ص ۲۲۴ ج ۶) کے الفاظ مروی ہیں۔ یعنی ایک رات کے اول حصہ میں آپ ﷺ نے قیام رمضان کی نماز پڑھائی۔ علاوہ ازیں تراویح رات کے اور حصے میں اس لئے پڑھی جاتی ہے کہ سب لوگ آسانی سے بلجماعت یہ قیام کر سکیں۔ اگر سب نمازی رات کے آخری حصے میں یہ اہتمام کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ محمدیہ

ج 1 ص 490

محدث فتویٰ